

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



فردی نام

۰۷ دؤا، فروردین ۱۴۰۲

سەرۆکێتی سەربەڕێگری

قیسەنامێر سەرۆکێتی: 885/Fm-C/2022

قیسەنامێرێکی کۆمەڵگە: دۆخێر، سەرۆکێتی سەربەڕێگری، سەرۆکێتی سەربەڕێگری، سەرۆکێتی سەربەڕێگری، سەرۆکێتی سەربەڕێگری

دۆخێر، سەرۆکێتی: دۆخێر، سەرۆکێتی

دۆخێر، سەرۆکێتی

(سەرۆکێتی، ئەوێتی، سەرۆکێتی، سەرۆکێتی، سەرۆکێتی، سەرۆکێتی)

دۆخێر، سەرۆکێتی

(سەرۆکێتی، ئەوێتی، سەرۆکێتی، سەرۆکێتی، سەرۆکێتی، سەرۆکێتی)

سەرۆکێتی کۆمەڵگە:

06 دۆخێر، 1444

30 سەرۆکێتی، 2022

سەرۆکێتی کۆمەڵگە:

14 سەرۆکێتی، 1443

15 دۆ، 2022



رئیس قضاة (رئیس) در خصوص این موضوع بر این نکته تأکید می‌کند که در صورتی که در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر قضاة در خصوص این موضوع به استناد ماده 1 از قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 1 از قانون آیین دادرسی کیفری) تجدیدنظر قضاة را ملزم به ارجاع پرونده به دادگاه بدوی می‌داند.

7.2.3 قاضی ناظر (رئیس) نیز به استناد این ماده، دادگاه بدوی را ملزم می‌داند که در صورتی که در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر قضاة در خصوص این موضوع به استناد ماده 19 از قانون آیین دادرسی کیفری 2022 در خصوص این موضوع تجدیدنظر قضاة را ملزم می‌داند که در صورتی که در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر قضاة در خصوص این موضوع به استناد ماده 02 (ماده 02) از قانون آیین دادرسی کیفری 2022 در خصوص این موضوع تجدیدنظر قضاة را ملزم می‌داند که در صورتی که در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر قضاة در خصوص این موضوع به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظر قضاة را ملزم می‌داند.

7.2.4 قاضی ناظر (رئیس) در خصوص این موضوع به استناد ماده 3 از قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 3 از قانون آیین دادرسی کیفری) در خصوص این موضوع تجدیدنظر قضاة را ملزم می‌داند که در صورتی که در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر قضاة در خصوص این موضوع به استناد ماده 3 از قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظر قضاة را ملزم می‌داند.

7.2.5 (رئیس) در خصوص این موضوع تجدیدنظر قضاة را ملزم می‌داند که در صورتی که در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر قضاة در خصوص این موضوع به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 2 از قانون آیین دادرسی کیفری) در خصوص این موضوع تجدیدنظر قضاة را ملزم می‌داند که در صورتی که در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر قضاة در خصوص این موضوع به استناد ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظر قضاة را ملزم می‌داند.

8- رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر قضاة

(رئیس) در خصوص این موضوع تجدیدنظر قضاة را ملزم می‌داند که در صورتی که در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر قضاة در خصوص این موضوع به استناد ماده 1 از قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 1 از قانون آیین دادرسی کیفری) در خصوص این موضوع تجدیدنظر قضاة را ملزم می‌داند که در صورتی که در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر قضاة در خصوص این موضوع به استناد ماده 17 از قانون آیین دادرسی کیفری 2022 در خصوص این موضوع تجدیدنظر قضاة را ملزم می‌داند که در صورتی که در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر قضاة در خصوص این موضوع به استناد ماده 1 از قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظر قضاة را ملزم می‌داند.



ይህን ዓይነት ጥያቄ ለማሟላት ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ።

11.8 ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ።

ወይንም ሌላ ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ። ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ። ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ።

11.9 ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ።

ወይንም ሌላ ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ። ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ።

12- ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ።

ወይንም ሌላ ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ።

ወይንም ሌላ ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ።

ወይንም ሌላ ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ።

ወይንም ሌላ ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ። ማህበራዊ ጥበቃ ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማግኘት ለሚችሉ ሰነድ አይደሉም ምክርቤት ለማስገባት ይችላሉ።

16 ጥቅምት 3/2012 (ደብዳቤ ስርዓት ስርዓት)



ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىر قانچە نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىر قانچە نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىر قانچە نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

13- قانچە ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىر قانچە نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ (سۆزۈمچىسى)

بۇ ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىر قانچە نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىر قانچە نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىر قانچە نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

13.1 ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىر قانچە نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ (سۆزۈمچىسى)

بۇ ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىر قانچە نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىر قانچە نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىر قانچە نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىر قانچە نەرسە ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.



13.1.1 ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۲ (دوره عملکرد و بررسی) و عملکرد و نتیجه (بررسی)

تسهیل‌های زیر را در صورت امکان در نظر بگیرید و در صورت لزوم توضیح دهید.

(الف) نتیجه (بررسی) تسهیل‌های زیر (دوره عملکرد و بررسی) در صورت لزوم توضیح دهید.

۱۳۰۱ تا ۱۳۰۲ (دوره عملکرد و بررسی) ۲۵ (تسهیل‌ها) در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

(ب) ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۲ (دوره عملکرد و بررسی) در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

(ج) ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۲ (دوره عملکرد و بررسی) در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.

در صورت لزوم توضیح دهید که چگونه می‌توانید به تسهیل‌ها در صورت لزوم توضیح دهید.



سنة ١٩٨٢، ج ١ (دائريه ترقى قاضي سرى) و قاضي سرى (دائريه محام قاضي سرى) سنة ١٩٨٢
السنة ١٩٨٢، ج ١ (دائريه ترقى قاضي سرى) و قاضي سرى (دائريه محام قاضي سرى) سنة ١٩٨٢.

13.3.1 ج ١ (سنة ١٩٨٢) قاضي سرى (دائريه محام قاضي سرى) و قاضي سرى 05 (قاضي سرى) سنة ١٩٨٢
ترقى قاضي سرى سنة ١٩٨٢.

(أ) (دائريه محام قاضي سرى) و قاضي سرى 15 سنة 2021 ج ١ (دائريه ترقى قاضي سرى)
ترقى قاضي سرى سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) "دائريه محام قاضي سرى سنة ١٩٨٢"
السنة

(ب) (دائريه ترقى قاضي سرى) سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) سنة ١٩٨٢

(س) (دائريه محام قاضي سرى) و قاضي سرى 06 سنة 2021 ج ١ (دائريه ترقى قاضي سرى)
ترقى قاضي سرى سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) "دائريه محام قاضي سرى سنة ١٩٨٢" السنة
(س) (دائريه ترقى قاضي سرى) سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) سنة ١٩٨٢

(ع) (دائريه ترقى قاضي سرى) و قاضي سرى السنة (دائريه محام قاضي سرى) سنة ١٩٨٢
ترقى قاضي سرى سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) سنة ١٩٨٢

(ف) (دائريه ترقى قاضي سرى) و قاضي سرى 06 سنة 2021 ج ١ (دائريه ترقى قاضي سرى)
دائريه ترقى قاضي سرى سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) "دائريه محام قاضي سرى سنة ١٩٨٢"
ترقى قاضي سرى سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) سنة ١٩٨٢
دائريه ترقى قاضي سرى سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) سنة ١٩٨٢
٢٠٢٢ ج ١ (سنة ١٩٨٢) (دائريه محام قاضي سرى) السنة (دائريه ترقى قاضي سرى) سنة ١٩٨٢
ترقى قاضي سرى سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) سنة ١٩٨٢
قاضي سرى سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) سنة ١٩٨٢ (سنة ١٩٨٢) سنة ١٩٨٢



(plea) سَهْمِيَّةٌ، و 'قَرَارِ' (plea) نَمَت قَرَارِي اِخْتِيَارِيَّةٌ وَنَا سِهْمِيَّةٌ قَرَارِيَّةٌ وَتَرَسِي

وَتَرَسِي قَرَارِيَّةٌ سَهْمِيَّةٌ قَرَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ وَتَرَسِي اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ 20.

14.2 رَجِيَّةٌ سَرِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ (balance of

probabilities) اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ 21.

15- اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

15.1 اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

15.2 اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

15.3 06 اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ



20 مَدْرَبِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ 2015/SC-A/02

21 مَدْرَبِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ 2013/SC-A/53

موردی که در این امر، دادگاه رسیدگی کننده، دادگاه خانواده است و در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

15.13 هرگاه در دادگاه رسیدگی کننده، دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

15.14 در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده، دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

رکاب 32.

29 دادگاه خانواده رسیدگی کننده، دادگاه خانواده است و در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

30 دادگاه خانواده رسیدگی کننده، دادگاه خانواده است و در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.

31 3/2012

32 3/2012 (دادگاه رسیدگی کننده، دادگاه خانواده است و در صورتی که دادگاه خانواده تشکیل داده شود، باید به شرح زیر باشد.)



